

## اولمپیک کھیل

”اولمپیک“ یونانی لفظ اولمپیا سے بنा ہے یونان دنیا کا ایک قدیم ملک ہے اور خوبصورت اور کشادہ وادی کا نام ہے۔ اس وادی میں ہر چوتھے سال یونان والوں کے ادبی اور روزشی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہاں کھیلے جانے والے کھیلوں کو اولمپیک کھیل کا نام دیا گیا۔

کہا جاتا ہے کہ کھیلوں کا پہلا اولمپیک مقابلہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1253 سال پہلے ہر کولیس نے شروع کیا تھا۔ اس روایت کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقابلے 884 قبل مسح میں شروع ہوئے اور 776 ق۔ م سے ہر چار سال کے بعد پابندی کے ساتھ ہونے لگے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق یہ کھیل ایک مہینے تک جاری رہتے تھے۔

اولمپیک کھیلوں میں جو کھلاڑی تین مقابلوں میں اول آتے، ان کے مجسمے بناؤ کرو اولمپیا کے میدان میں نصب کر دیے جاتے تھے۔ جب یہ فتح کھلاڑی اپنے اپنے شہروں میں واپس جاتے تو عام دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے لیے شہر کی چار دیواری توڑ کر راستہ بنایا جاتا تھا۔ ان کھلاڑیوں کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کیا جاتا۔

اولمپیک کھیل تہوار کے طور پر منائے جاتے۔ ان کے شروع ہونے سے پہلے پورے یونان میں اعلان کیا جاتا کہ اولمپیا کے مقابلے ہونے والے ہیں۔ اس اعلان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ملک کے ہر گوشے سے لوگ بے خوف و خطر مقابلوں میں شرکت کے لیے آسکیں۔

ان کھیلوں میں حصہ لینے والوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو۔ ان کے اعمال اچھے اور پاکیزہ ہوں۔ انہوں نے کم سے کم دس مہینے مقابلے کی تیاری کی ہو اور آخری مہینہ اولمپیا میں گزارا ہو۔

مقابلے سے پہلے کھلاڑیوں کی فٹس کامعا نہ کیا جاتا اور وہ کھیلوں میں دیانت داری سے حصہ لینے کا عہد کرتے۔ ان لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی۔ شاعران پر نظمیں لکھتے، سنگ تراش ان کے مجسم بناتے، عوام جلوس نکالتے اور یہ کھلاڑی ملک کے بہترین فرزند کہتے جاتے۔ زیتون کی پتوں کا تاج بنا کر ان کے سروں پر سجا جاتا۔ یونانیوں کے نزدیک کسی کھلاڑی کا یہ سب سے بڑا اعزاز تھا۔

اولمپیک کھیلوں کا یہ سلسلہ 394 تک جاری رہا۔ بعد میں یہ مقابلے بند ہو گئے اولمپیا کے میدان میں ستا ٹاچھا گیا اور کھیلوں کا یہ سلسلہ پندرہ سو سال تک بند رہا۔

انیسویں صدی کے آخر میں ایک فرانسیسی نوجوان 'کوبے تین' نے اولمپیک کھیلوں کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اولمپیا گیا جہاں اُسے خیال آیا کہ کھیلوں کے عالمی مقابلے شروع کیے جائیں۔ اس نے 1894 میں دنیا بھر سے کھیلوں کے نمائندوں کو بلا یا اور اپنے خیال کا انٹہار کیا سب نے اس کی بھرپور تائید کی اور ہر تعاون کا یقین دلایا۔ اس کے بعد سب سے پہلے یونان کے شہر ایتھرنس کا انتخاب ہوا اور 6 اپریل 1896 کو پھر سے اولمپیک کھیل شروع ہو گئے۔

1896 میں جب اولمپیک کھیل دوبارہ شروع ہوئے تو اس میں صرف تیرہ ملکوں کے کھلاڑی شریک ہوئے۔ اب یہ کھیل ہر چوتھے سال پابندی سے ہونے لگے اور ان کی مقبولیت برابر بڑھتی چلی گئی۔ 1908 تک اولمپیک کھیل دنیا بھر میں مشہور ہو گئے۔ یہاں تک کہ 1912 میں جب سوینڈن کی راجدھانی استاک ہوم میں اولمپیک کھیل ہوئے تو ان میں تمام بڑا عظموں کے لگ بھگ ڈھائی ہزار کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ان میں ستا ٹاون عورتیں بھی شامل تھیں۔


پہلی جنگِ عظیم کے زمانے کو چھوڑ کر ہر چار سال کے بعد مختلف ملکوں کے یہ مقابلے اولمپیائی کھیلوں کے نام سے ہونے لگے۔

دوسری جنگِ عظیم کے دوران بھی یہ کھیل نہ ہو سکے۔ جنگ کے بعد 1948 میں لندن میں اولمپیائی مقابلے ہوئے جن میں ایک سو بائیس ملکوں کے دس ہزار کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے مختلف ملکوں کے جب کھلاڑی قدم سے قدم ملا کر اسٹیڈیم میں چلتے ہیں تو یہ منظر بڑا لفڑیب ہوتا ہے۔ سب سے آگے یونان کے کھلاڑی




ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انگریزی حروف تہجی کے اعتبار سے دوسرے ملکوں کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ میزبان ملک کے کھلاڑیوں کا دستہ آخر میں ہوتا ہے۔ اس موقع پر بے شمار کبوتر چھوڑے جاتے ہیں اور پھر سب کی نظریں اس اولمپک کھلاڑی پر پڑتی ہیں جو اولمپک کی مشعل لے کر اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ مشعل اولمپیا میں سورج کی کرنوں سے روشن کی جاتی ہے۔ اسے ایک کے بعد ایک کھلاڑی لے کر اس ملک کی طرف دوڑتا ہے جہاں اس سال کے اولمپک کھیل ہونے والے ہیں۔ جب تک کھیل جاری رہتے ہیں یہ مشعل جلتی رہتی ہے۔ کھیلوں کے ختم ہونے پر اسے بچھادیا جاتا ہے اور اسی موقع پر اگلے اولمپک کھیلوں کے لیے ملک اور شہر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔

اولمپیائی کھیلوں کا اپنا جھنڈا ہے۔ اس کی زمین سفید ہے جو امن کی نشانی ہے۔ سفید زمین پر نیلے، پیلے، کالے، سبز اور لال رنگوں کے پانچ دائرے ہیں۔ یہ دائرے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ یہ دائرے پانچ بڑی اعظموں کی



علامت ہیں۔ ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کی علامت ہیں۔ لیکن اب یہ دائرے بین الاقوامی برادری کا نشان بن چکے ہیں۔ ان پانچ رنگوں میں دنیا کے ہر قومی جھنڈے کا کوئی نہ کوئی رنگ شامل ہے۔ اولمپک کا مولو لاطینی زبان میں ہے جس کے معنی ہیں ”اور تیز اور اونچا اور مضبوط“۔ یہ مولو کھلاڑیوں کو محبت، محنت اور قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ کھیلوں کی اہم بات محض جیتنا ہیں، بلکہ ان میں حصہ لینا



ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھیل کو کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلنے والا مقابلے میں ہارنے کے باوجود لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

### معنی یاد کیجیے

|            |   |   |
|------------|---|---|
| کشادہ      | : | کھلا ہوا، پھیلا ہوا                     |
| وادی       | : | پہاڑوں کے درمیان کی جگہ                 |
| منعقد ہونا | : | قائم ہونا، قرار پانا                    |
| مجسے       | : | محمسہ کی جمع، بہت                       |
| نصب کرنا   | : | لگانا، کھڑا کرنا، قائم کرنا             |
| شہر پناہ   | : | شہر کی چار دیواری، فصیل                 |
| سنگ تراش   | : | پتھروں کو تراشنے والا، محمسہ بنانے والا |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| فرزند        | : | بیٹا   |
| اعزاز        | : | عزت، تکریم و تعظیم، انعام                            |
| بین الاقوامی | : | مختلف قوموں کا                                       |
| تائید        | : | جماعت، طرف داری                                      |
| بر اعظم      | : | خشقی کا بہت بڑا حصہ جس میں کئی ملک شامل ہوں          |
| فتح یاب      | : | جیتنے والا   |
| اسٹیڈیم      | : | وہ خاص جگہ جہاں پر کھیلوں کے مقابلے ہوں              |
| حروفِ تجھی   | : | کسی زبان کے شروع سے آخر تک کے بنیادی حروف            |
| دستہ         | : | کھلاڑیوں کا گروپ، فوج کی ٹکڑی                        |
| علامت        | : | نشانی، پہچان   |
| موٹو         | : | وہ خاص نشان جس سے کسی گروہ یا ادارے کی پہچان ہوتی ہے |
| آمادہ        | : | تیار، راضی   |
| لاطینی زبان  | : | یونان کی پرانی زبان                                  |

### سوچیے اور بتائیے۔

1. اولمپک کھیلوں کا آغاز کیسے ہوا؟
2. پرانے زمانے میں اولمپک کھیلوں کا اعلان کس طرح کیا جاتا تھا؟
3. اولمپک کھیلوں میں شرکت کے لیے کھلاڑیوں کے لیے کیا شرطیں تھیں؟
4. اولمپک کھیلوں میں جیتنے والے کھلاڑیوں کی کس طرح عزت افزائی کی جاتی تھی؟
5. اولمپک کھیلوں کو بین الاقوامی سطح پر شروع کرنے کی تحریک کس نے کی؟
6. عورتوں کو اولمپک کھیلوں میں حصہ لینے کا موقع کب سے ملا؟

7. اولمپک جھنڈا کس بات کی علامت ہے؟
8. اولمپک کاموٹس زبان میں ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟
9. اولمپک کھیل کس جذبے سے کھیلے جاتے ہیں؟

**نچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔**

|              |          |          |          |         |
|--------------|----------|----------|----------|---------|
| معقد ہونا    | عہد کرنا | سنگ تراش | پاکیزہ   | مقبولیت |
| بین الاقوامی | مشعل     | براعظم   | راجدھانی |         |

**پڑھیے اور سمجھیے۔**

- انیسویں صدی کے آخر میں ایک فرانسیسی نوجوان کو بے تین نے اولمپک کھیلوں کو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔
- کو بے تین کا خیال تھا اس کے داروغ کے ساتھ جسم کی نشوونما بھی ضروری ہے۔
- وہ خود اولپیا گیا۔
- جبہاں اسے خیال آیا کہ کیوں نہ کھیلوں کے عالمی مقابلے شروع کیے جائیں۔
- پہلے جملے میں کو بے تین اُسِم ہے اور بعد کے جملوں میں 'اس'، 'وہ'، 'اُسے' کو بے تین کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ 'ضمیر' کہلاتے ہیں۔

## عملی کام

- اولمپک کھیلوں کے بارے میں دس جملے لکھیے۔
- اولمپک کھیل اب تک کن کن ملکوں میں ہو چکے ہیں اس کی فہرست بنائیے۔

## غور کرنے کی بات

- یہ بات جتنی مشہور ہے اتنی ہی سچ بھی ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان صحت مندر ہنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتا ہے۔ کام کے وقت کام، آرام کے وقت آرام کرتا ہے۔ ورزش کرتا ہے اور کھلیل کو دکر اپنے آپ کو صحت مند اور تند رست رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔
- کھلیل صرف ورزش ہی نہیں انسانی تفریح کا بڑا ذریعہ بھی ہے۔ کھلیل کا جذبہ اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں کھلیل بہت مشکل اور جان لیوا ہوتے تھے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سدھار ہوتا گیا اور اب ان میں پہلے جیسی و قشیں نہیں البتہ محنت ضرور ہے۔ آج کل دنیا بھر میں کھلیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں اور ساری دنیا کے کھلاڑی ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔
- ہمارے زمانے میں کھلیلوں کے سب سے بڑے مقابلے اولمپک مقابلے ہیں۔ اولمپک میں دنیا کے تقریباً سو ممالک حصہ لیتے ہیں۔ ان مقابلوں میں ساری دنیا کو پیار، محبت اور یتھقی کی ڈور میں باندھ دیا ہے۔ چونکہ اس میں دنیا بھر کے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں اسی لیے اولمپک کھلیلوں کو بین الاقوامی مقابلوں کا درج حاصل ہے۔ یہ مقابلے اتحاد و اتفاق کے بے مثال نمونے ہیں۔